

اردو / URDU

(کمپلسری) (Compulsory)

کل مارکس : 300

Maximum Marks : 300

مقررہ وقت : 3 گھنٹے

Time Allowed : 3 Hours

سوالات سے متعلق خصوصی ہدایات

برائے مہر بالی ذیل کی ہر ہدایت کو جواب لکھنے سے پہلے توجہ سے پڑھ لیں :

تمام سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔

ہر سوال یا سوال کے حصے کا نمبر اس کے سامنے درج ہیں۔

جواب اردو (فارسی رسم الخط) میں لکھیے۔

سوالوں کے طے شدہ الفاظ میں ہی جواب دیں۔ الفاظ کی تعداد حد سے زیادہ یا کم ہونے کی صورت میں نمبر کاٹے جاسکتے ہیں۔

اگر کسی صفحہ یا صفحے کے کسی حصے کو خالی چھوڑنا مقصود ہے تو اس پر کاٹ کا نشان لگادیں۔

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in **URDU** (Urdu script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

1Q. مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر چھ سو (600) الفاظ پر مشتمل ایک مضمون تحریر کریں :

(a) جمہوریت اور اظہارِ رائے کی آزادی

(b) کیا ہندوستان میں پینے کے پانی کا بحران قریب الوقوع ہے؟

(c) قبائلی ثقافت کا تحفظ : کوششیں اور امکانات

(d) خالی برتن زیادہ شور

2Q. مندرجہ ذیل عبارت کو پوری توجہ سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے واضح، درست اور جامع زبان میں جواب دیں :

$$12 \times 5 = 60$$

تنقید کو ادب کا حصہ سمجھا جاتا ہے کیوں کہ یہ ادب کو اپنی حدود میں رکھنے کا انتظام کرتی ہے۔ جب بھی ادب میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے جو اس کے جوہر کے بہاؤ میں رکاوٹ بنتی ہے تو ادب اس طرح مختلف ہو جاتا ہے جس طرح موسيقی میں غیر آہنگ سُر شامل ہونے سے بے سُرا پن پیدا ہوتا ہے۔

خوشی ہمارے حقیقی احساس کے اظہار میں مضمرا ہے، جھوٹے احساس میں ہم صرف کہہ ہی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ انسان جھوٹے جذبات میں بھی خوشی محسوس کرتے کچھ لوگ تشدد کر کے، کسی کی دولت ہتھیا کریا کسی کو نقصان پہنچا کر خود غرضی کے لیے خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دماغ کا فطری رجحان نہیں ہے۔ چوراندھیرے کو روشنی سے زیادہ پسند کرتا ہے لیکن یہ روشنی کی برتری میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔

وہ احساسات جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ جوڑنے کے قابل ہوتے ہیں وہ حقیقی احساسات ہیں۔ محبت ہمیں دوسروں سے جوڑ دیتی ہے، تکبیر ہمیں الگ کرتا ہے جو شخص بہت زیادہ متکبر ہو وہ دوسروں سے کیسے ملا پ کرے گا؟ اس لیے محبت ایک سچا یمان ہے اور غرور جھوٹا ہے۔

عقیدت کے اظہار کے لیے رحمت کی یاد دلانے کے لیے کوئی ٹھوس چیز درکار ہے۔ ہمیں ایک احترام چاہیے۔ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں بیرونی چیزوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ فطرت کی بیرونی دنیا کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو بیٹھ کی موت پر قائم کرتے ہوئے دیکھ کر چند آنسو بہانے سے قاصر ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو کر خوشی نہیں م، ناسکتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا سے اوپر اٹھ کر ”زروان“ کی حالت حاصل کر چکے ہیں۔ ادب کی ایسی صورت حال کی کوئی اہمیت نہیں۔ صرف وہی جو دنیا کی خوشی یا غم کے ساتھ مل کر خوشی یا غم کا تجربہ کر سکتا ہے یاد دوسروں میں خوشی یا غم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی سچا ادب ہو سکتا ہے۔ ایک فنا کار میں اس کے اظہار کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن مختلف حادثات خراب افراد کو مختلف سمتوں میں لے جاتے ہیں۔ تمام انسانوں میں احساسات کی ممامثت کے باوجود حالات کافر ق ان کے رد عمل کو متاثر کرتا ہے اگر ہم ان کے درمیان رہے ہیں اور انھیں لکھنے کا حوصلہ ملا ہے تو ہم فطری طور پر ان کی خوشی اور ان کے غم کو اپنا خیال کرنا شروع کر دیں گے تو ہم متاثر ہوں گے۔ حالات جس طرح ہمارے احساسات کی گہرائی کے مطابق ہوتے ہیں اس طرح حالات کو بھی سمجھنا چاہیے اگر یہ تعبیر کیا جائے کہ کوئی مخصوص لوگ تحریک کا پرچار کر رہے ہیں تو یہ نا انصافی ہو گی۔ ادب اور پروپیگنڈہ میں کیا فرق ہے؟ یہاں تک کہ پروپیگنڈہ میں نفس کی کوئی تشییر بھی نہیں ہے۔ ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے ایک بے تابی موجود ہے جو اسباب کے جواز کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ سرد اور نرم ہوا کے جھونکے میں ادب جو سب کو سکون اور خوش کر دیتا ہے۔ پروپیگنڈہ ایک

طوفان ہے جو سر سبز درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور جھونپڑیوں اور جگہوں دونوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ متأثر ہو کر پروپیگنڈہ خوشی کی چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہوشیار فکار اسے خوبصورتی اور پھولوں سے بھرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہی پروپیگنڈہ کا مقصد ہے کہ بجائے اچھے ادب کا تکلیف این جاتا ہے۔

- 12 (a) تقید کو ادب کا حصہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟
- 12 (b) صحیح اور غلط طہار سے کیا مراد ہے؟
- 12 (c) دماغ کے فطری رجحان کے لیے کیا نہیں ہوتا ہے؟
- 12 (d) مصنف کی رائے میں سچا ادب کیا ہو سکتا ہے؟
- 12 (e) ادب اور پروپیگنڈہ میں کیا فرق ہے؟
- 3Q. مندرجہ ذیل اقتباس کی تخلیص ایک تہائی حصے میں اپنے الفاظ (اردو) میں تحریر کیجیے۔ کوئی عنوان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے:
- 60

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حد کا ہدف مخصوص افرد پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایسے شخص سے حد کیا جائے جو دولت مند یا قابل احترام ہو۔ حد صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں یقین نہ ہو کہ دوسروں نے ہمارا موازنہ کیا ہے یا ہمارا موازنہ کچھ ایسے لوگوں سے کر سکتے ہیں جو ہم سے دور ہیں یا منقطع ہیں اور جب یہ یقینی نہیں ہے کہ لوگ ہمیں ایک ساتھ دیکھیں گے اور موازنہ کریں گے۔ کاشی میں رہنے والا ایک امیر آدمی نہیں بنے گا۔ یورپ میں رہنے والے ایک آدمی کے امیری کے بارے میں سُن کر رشک آتا ہے۔ ایک ہندی شاعر کسی انگریز شاعر کی نمایاں شخصیت پر رشک محسوس نہیں کرے گا۔ رشک اکثر رشتہ داروں، بچپن کے دوستوں، ہم جماعت، پڑوسیوں میں بڑھتا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ بچپن سے اکٹھے گھوم رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی ترقی پر رشک کر سکتے ہیں۔ اکثر دو دوستوں میں سے کوئی ایک کامیابی حاصل کرتا ہے اور اچھی پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ اکثر دوسرے دوست کو اپنی کامیابی میں رکاوٹوں کے چھپے ہوئے علاقوں کو چھپانے کی جگتوں میں اسی طرح کی پوزیشن حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے یہ احساس کرنا کوئی معمولی بات

نہیں ہے کہ ایک طویل دوست ان کے پیچھے ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ روابط بھول جاتے ہیں ورنہ انہیں اپنے لیے مقام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ہم نہ صرف ہمدردی اور مدد کی آبیاری کرتے ہیں بلکہ حسد اور اختلاف کا مکان بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم صرف اپنے عمل سے ہی بھلانی کے امکانات کو روشن کریں۔ اس طرح مستقبل کی موروٹی غیر یقینی صورت حال غیر متزلزل اور پوشیدہ ہے۔ ہم تمام تر علم اور ذہانت کے باوجود ہم اس پر پوری طرح قابو نہیں پاسکتے ہیں۔

اب جو چیز اہم، ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے دائرے میں حسد کرنے والے افراد اور مطلوبہ سے کے علاوہ اس متحرک معاشرے کی بھی ضرورت ہے۔ حسد معاشرے کے تاثر کو متاثر کرنے کی ضرورت سے پیدا ہوتا ہے۔ خوشحالی کی خوبی اور اعلیٰ احترام کا مقصد و قی طور پر لطف انداز ہونے کے لیے نہیں ہے، صرف ذاتی مواد اور خوشی کے لیے انہیں کیونٹی کو بتائے بغیر اگرچہ ہم در حقیقت کسی اور کی طرح نیک ہیں لیکن معاشرہ ہمیں برابر یا برتر سمجھے تو ہم مطمئن رہیں گے اور حسد کے اصلی صفات میں مبتلا رہیں گے۔

یہ عجیب بات ہے کہ کس طرح بہت سے لوگ کسی چیز کو حاصل کرنے سے مایوس ہیں۔ ہم صرف معاشرتی اور اک کی وجہ سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ حسد سماجی وجود کی مصنوعیت سے جنم لیتا ہے۔ اس کے زیر اثر، ہمیں بے ضرورت بے اطمینانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم دوسروں، کی ترقی اور ترقی کی وجہ سے اپنی صحت کے لیے کسی بھی قسم کے نقصان کا اندازہ نہیں لگاتے۔ ایک نج انصاف فراہم کرتا ہے ایک موسن تو زدیتا ہے۔ سماجی بہبود کے نقطہ نظر سے کسی نج کے لیے یہ مناسب نہیں ہو گا کہ وہ موسن کے بارے میں یہ اظہار کرے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کمتر ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں کمتر اعلیٰ کی سوچ گھری ہو جاتی ہے، اس کے مختلف طبقوں میں حسد مستقل طور پر آباد ہو جاتا ہے اور اتحاد کی طرف پیش رفت صرف شاذ و نادر مواقع پر ہی نظر آتی ہے۔ لوگ اپنی روزی کمانے میں، معاشرے سے بہت زیادہ عزت اور اطمینان ختم ہو جائے گا۔ جہاں امتیازی سلوک کا یہ احساس بڑے پیمانے پر عام کیا جاتا ہے اور انسانی رویوں میں واضح طور پر نظر آتا ہے وہاں لوگوں کی توانائی کچھ مخصوص شعبوں کی طرف جاتی ہے اور کام کی جگہیں منتشر ہو جاتی ہیں۔

4Q. مندرجہ ذیل عبارت کا انگریزی میں ترجمہ کیجیے :

کاٹچ انڈ سٹریز اور چھوٹے پیانے کے کاروباری اداروں سے متعلق بات چیت ان دونوں ہندوستان میں ایک بار پھر جنم لے رہی ہے۔ ایسی صنعتوں کے معاملے میں چھوٹے گھر پر مبینی کاروبار کے قیام کا تصور ہے جس میں چھوٹے احاطے کم سے کم سرمائے کی سرمایہ کاری اور کم مزدوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ موڑ افراد کو پر ڈیو سریا مینو فیکچر رز بننے کی اجازت دیتا ہے جو اپنی روزی روٹی کمانے کے چیلنجوں سے نمٹتا ہے اور اس وجہ سے بے روزگاری کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے بہتر معیار کا باعث بتتا ہے۔ یہ حقیقت کہ چھوٹے چھوٹے پیانے کی صنعتیں ہندوستان جیسے ملک کی ترقی کے مفاد میں ہو سکتی ہیں۔ خود مہاتما گاندھی نے جدوجہد آزادی کے دنوں میں تصور کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو چھوٹے پروڈکشن یونٹس قائم کرنے اور روایتی صنعتوں کی بحالی کی ترغیب دی۔ اس دوراندیشی کے باوجود آزادی کے بعد کی قیادت نے اس شعبے کو بڑی حد تک نظر انداز کیا جس سے صنعتوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ یہ صنعتیں متمول طبقے کی ذاتی ملکیت ہنڑتی رہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی، تعلیم کا پھیلاؤ، عوام میں بیداری اور اپنے حقوق کا مطالبہ، بے روزگاری کی بڑھتی قطار، ان سب چیزوں نے آج کے باشور مفکرین کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ دیر سے بہتر سوچنے پر غور کریں۔ گاندھی کے اصول آج اس بات کی پہچان بڑھ رہی ہے چھوٹے پیانے کی صنعتوں کو اپنا ناملک کی ضروریات کے مطابق ہے۔ تنبیجتاً گالا صنعتوں کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیل گیا ہے۔

5Q. مندرجہ ذیل پیرا گراف کا اردو میں ترجمہ کیجیے :

In our democratic system, the press has a vital role. While there has been large-scale expansion of the print and visual media in recent years, a focused approach to dealing with major societal and political issues has still to evolve. There is, as yet, excessive and exaggerated coverage of exposures and scandals and far too little well-informed comment or analysis of the various deep-rooted factors which generate the continuing malaise. The media could make an extremely useful contribution by devoting adequate coverage to tasks well done, highlighting the achievements of honest and

efficient public servants and organizations, according special attention to developments in the remote and backward areas of our country. Our media is free and unfettered. It should be able to expose cases and incidents involving irregular and unlawful exercise of authority and abuses of all kinds. The existing ills in our socio-political environment will, on present reckoning, take considerable time to remedy. The Department of Personnel and Administrative Reforms should focus on establishing institutions responsible for all personnel matters — appointments, postings, transfers etc. — without any external interference. Also, there is a need for adoption of a robust code of ethics to be followed by those involved in public functioning.

$2 \times 5 = 10$

6Q . (a) مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔

2 اسم صفت کی تعریف مثالیں دے کر بیجیے۔ (i)

2 اسم خاص کی تعریف بیان بیجیے۔ (ii)

2 اسم مادہ کی تعریف مثالوں کے ساتھ بیان بیجیے۔ (iii)

2 مفرد جملہ کے کہتے ہیں؟ (iv)

2 حرف ربط کی تعریف مثالوں سے بیجیے۔ (v)

$2 \times 5 = 10$ (b) درج ذیل الفاظ کے دو دو مترادفات لکھیے :

2 چرخ (i)

2 مجموع (ii)

2 عقل (iii)

2 نصیب (iv)

2 دنیا (v)

$$2 \times 5 = 10$$

(c) درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے :

2 (i) قصیدہ اور مرثیہ کے فرق کو بیان کیجیے۔

2 (ii) مشنوی کی تعریف بیان کیجیے۔

2 (iii) نظم معری کی تعریف بیان کیجیے۔

2 (iv) آزاد نظم کے کہتے ہیں؟

2 (v) صنعت تشبیہ کے کہتے ہیں؟

10 (d) غالب کی خطوط نگاری سے بحث کیجیے۔